

ROOTWORDS OF SURAH AN NAML 1-31

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| يَعْمَهُونَ | بِشْهَابٍ | قَبَسٍ | تَصْطَلُونَ | نُودِي |
| ع م ه | ش ه ب | ق ب س | ص ل ي | ن د و |
| وہ بھکتے پھرتے ہیں | ایک شعلہ | انگارا / آگ | تاپو / تم سیکو | آواز آئی |
| بُورِكَ | عَصَاكَ | تَهَزُّزٌ | جَانٌّ | مُذْبِرًا |
| ب ر ك | ع ص و | ه ز ز | ج ن ن | د ب ر |
| بارکت ہے | اپنی لاٹھی | حرکت رہی تھی | پتلا سانپ | پیٹھ پھیر کر |
| يُعَقِّبُ | حَبِيبِكَ | اسْتَيْقَنَتْهَا | مَنْطِقٌ | الطَّرِيقِ |
| ع ق ب | ج ي ب | ي ق ن | ن ط ق | ط ي ر |
| پیچھے مڑ کر دیکھا | اپنا گریبان | یقین کر لیا تھا اس کا | بولی | پرنندوں کی |
| يُورَعُونَ | النَّمْلِ // اَلْمَلَّةِ | يَخْطُمُنَّكُمْ | فَتَبَسَمَ | صَاحِبًا |
| و ز ع | ن م ل | ح ط م | ب س م | ض ح ك |
| روکا جاتا تھا | چیونٹیوں کے // ایک چیونٹی | کچل ڈالیں تم کو | تو مسکراتے ہوئے | ہنس پڑے |
| أُورِغِي | تَفَقَّدَ | فَمَكَثَ | أَحْطَتْ | تَمَلَّكُهُمْ |
| و ز ع | ف ق د | م ك ث | ح و ط | م ل ك |
| مجھے تو تین دے | حاضری لی / خبر لی | پھر وہ ٹھہرا | میں نے احاطہ کیا | ان پر حکمرانی کرتی ہے |
| | فَصَدَّهُمْ | الْحَبَاءَ | فَأَلْقَاهُ | |
| | ص د د | خ ب أ | ل ق ي | |
| | پھر اسنے انہیں روک دیا | چھپی ہوئی چیز کو | پھر ڈال دے اسے | |